



سوال

(538) کیا بھینس کی قربانی کرنا درست ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا بھینس کی قربانی (نریامادہ) درست ہے؟ اور دلیل کیا ہے؟ بعض علماء ممانعت کا فتویٰ دیتے ہیں جیسے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے۔ جس میں منع کیا گیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بھینس کی قربانی میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ علمائے احناف جواز کے قائل ہیں۔ بنا پر کہ بھینس گائے کی قسم ہے۔ لیکن یہ بات معروف ہے کہ بھینس گائے سے علیحدہ نوع ہے۔ ان کا باہم بہت سا رافرق ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ اس بارے میں علامہ مناوی نے ”کنوز الحقائق“ میں ایک حدیث بھی بیان کی ہے لیکن وہ ثابت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بھینس **بھینۃ الانعام** (اونٹ گائے بکری بھید) میں شامل نہیں جن کی قربانی کا حکم ہے۔ لہذا اس کی قربانی نہ کرنے میں احتیاط ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (فتاویٰ اہل حدیث: ۲/۲۶۶-۲۶۷)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 418

محدث فتویٰ